

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن نے نارٹھیپٹن پارک کا نام بدل کر نارٹھروپ پارک رکھ دیا ہے

برامپٹن، آن (25 اپریل 2022) – آج، سٹی آف برامپٹن نے کانسٹیبل جیفری نارٹھروپ کے اعزاز اور یاد میں نارٹھیپٹن پارک کا نام باضابطہ طور پر تبدیل کرتے ہوئے نارٹھروپ پارک رکھ دیا ہے، جو 2 جولائی 2021 کو اپنی ڈیوٹی کے دوران ایک ہنگامی صورتحال میں کارروائی کے دوران ہلاک ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک پولیس افسر کی حیثیت سے 31 سال سے زیادہ عرصے تک خدمات سر انجام دی تھیں۔

کانسٹیبل نارٹھروپ برامپٹن کے رہائشی تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1989 میں کورٹ سروسز سے کیا اور بعد میں ٹورانٹو پولیس سروس کے لیے 1999 میں بطور کانسٹیبل حلف اٹھایا تھا۔

اس حوالے سے میئر پیٹرک براؤن نے کہا کہ "میں کانسٹیبل نارٹھروپ کے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ اپنی دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور اس پارک کا نام تبدیل کرنے کا حصہ بننے پر فخر محسوس کرتا ہوں جو ہمیں ان کی مثالی قیادت اور قربانی کی یاد دہانی کراتا رہے گا۔" انہوں نے مزید کہا کہ "میں امید کرتا ہوں کہ جب ان کے خاندان کے لوگ اور دوست اس پارک میں جائیں گے، تو ان کی حسین یادیں تازہ ہو جائیں گی۔"

ٹورانٹو پولیس کے سربراہ، جیمز ریمر نے کہا کہ "اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہمارے اس افسر اور سراغ رساں کانسٹیبل جیف نارٹھروپ کو ایسا شاندار خراج تحسین پیش کرنے پر میں ٹورانٹو پولیس سروس کی جانب سے، سٹی آف برامپٹن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔" ان کا مزید کہنا تھا کہ "یہ پارک ان کے نام کو زندہ رکھے گا، ان کی یاد کو عزت بخشے گا اور لوگوں کو عوامی خدمت کی قدر کی پہچان کرواتا رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ عمل ان کے خاندان، دوستوں اور پوری برامپٹن کمیونٹی کے لیے فخر اور خوشی کا مقام بھی بنے گا۔"

کانسٹیبل نارٹھروپ اور ان کی اہلیہ، مارگریٹ، 20 سال سے زائد عرصہ سے برامپٹن کی کمیونٹی کے سرگرم رکن رہے ہیں، جو اسکاؤٹس کینیڈا، برامپٹن لیکروس اور اسپیشل اولمپکس میں بھی شامل ہوئے ہیں۔

پیل ریجنل پولیس کے چیف نشان دورائیہا نے کہا کہ "اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہمارے اس افسر اور سراغ رساں کانسٹیبل جیف نارٹھروپ نے اپنے خاندان، دوستوں اور برامپٹن کی اپنی کمیونٹی کا بہت خیال رکھا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "نارٹھروپ پارک ہماری کمیونٹی اور پیل ریجنل پولیس کے ممبران کے لیے ایک خاص جگہ ہو گی، کیونکہ یہ ہمیں ہمیشہ اس بات کی یاد دہانی کراتا رہے گا کہ سراغ رساں کانسٹیبل جیف نارٹھروپ کون تھا۔ یہ سٹی آف برامپٹن اور ریجنل آف پیل کے ساتھ ان کی وابستگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی حفاظت اور خدمت کے لیے ان کی جانب سے اپنی جان جیسی قیمتی چیز کی قربانی دینے کی بھی یاد دلاتا رہے گا۔"

کانسٹیبل نارٹھروپ کو کمیونٹی کے لیے ان کی غیر متزلزل وابستگی، اپنی ٹیم کے لیے لگن اور ایک پیار کرنے والے شوہر، باپ اور بیٹے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ مارگریٹ، تین بچے برینن، سمانتھا اور مچل اور والدہ ڈیان شامل ہیں۔

آج صبح کے ایونٹ کی تصاویر [یہاں ڈراپ باکس](#) پر دستیاب ہیں۔ براہ کرم فوٹو کے لیے کریڈٹس سٹی آف برامپٹن سے منسوب کریں۔

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca